© rasailojaraid.com

ہمارا معاشرہ

چند خطرناک نفسیاتی وبائیں :

نعیم صدیقی

(۳)

اہلِ دین کا ایک بڑا گروہ ——— جوش اور دینداری کی حس بھی کچھ زیادہ ہی رکھتا ہے ——— ایک اور ہی زاویۂ نگاہ سے حالات کو دیکھتا ہے اور تیزی سے مایوسی کے گڑھے کی طرف لڑھک رہا ہے!

ہمارا اشارہ ایسے لوگوں کی طرف ہے جو قوم کی "اجلِ مسمّٰی" کے بالکل سر پر آ لگنے کے قائل ہیں اور حالات کی اصلاح سے قطعی طور پر مایوس ہو کر عذاب کے ورود کے بالکل منتظر بیٹھے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ مختلف جماعتیں ایک عرصے سے دین کا پیغام دے رہی ہیں، ملک میں مدت سے اسلامی لٹریچر پھیل رہا ہے، بے شمار حلقہ ہائے درس موجود ہیں، ہزارہا مساجد سے اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے آواز اٹھتی رہتی ہے ——— اور پھر ان کوششوں میں جو کمی تھی اسے پورا کرنے کے لئے تقسیم کا خونیں ہنگامہ ایک ہمہ گیر تنبیہہ بن کے آیا ہے لیکن جو قوم اس کے بعد بھی اپنے حال پر قائم ہے، ناممکن ہے کہ اب اس کی اصلاح کی جا سکے اور اس کے نظامِ زندگی کو اسلام کی بنیادوں پر استوار کیا جا سکے۔ اس نظریے کے لوگوں کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ہیں جو اصلاح کی کوششوں سے بے نیاز ہونے کا ایک اچھا بہانہ مل جانے کی وجہ سے اپنی دنیوی زندگی میں پورے اطمینان سے یکسو ہو چکے ہیں اور بزعم خویش آنے والے عذاب کے تماشائی بن کے بیٹھے ہیں۔ ان حضرات کے دلوں میں قوم کے خلاف بوجوہ ایک انتقامی جذبہ کار فرما ہے اور اس وجہ سے یہ اس بات کے خواہشمند ہیں کہ قوم شکارِ عذاب ہو اور پھر یہ کنارے بیٹھ کر اسے دیکھیں، لذت لیں، اور پھر یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا تھا، اب مزہ چکھو! ——— جیسے خود یہ پوری طرح بری الذمہ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی مسئلہ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکی ہے کہ تم کو بہر حال بچا لیا جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دین میں زیادہ انہماک رکھنے والے ہیں، زیادہ مخلص ہیں، اور اصلاح سے مایوس ہو کر اس فکر میں ہیں کہ تمدن کے ہنگاموں سے الگ ہو کر اپنے لیے کوئی ذہنی و روحانی پناہ گاہ تعمیر کریں اور آنے والے عذاب سے پہلے پہلے کہیں سر چھپانے کا کوئی انتظام کر لیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ ان دونوں قسم کے حضرات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی عام زندگی میں اس طرح کی قنوطیت میں مبتلا ہوتا ہو۔ ان میں سے کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو حصولِ معاش کے لیے اپنی جدوجہد کو کبھی ختم نہیں کرتا، چاہے دو مہینے تک کامیابی کی کوئی صورت نہ پیدا ہو۔ ان میں سے کوئی اگر دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو چاہے گھنٹوں کوئی گاہک نہ آئے لیکن وہ شام سے پہلے دروازہ بند کر کے نہیں اٹھتا، بلکہ اسے برابر انتظار رہتا ہے کہ شاید اب کوئی آ جائے۔ ان میں سے کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو چاہے مرض کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اور معالجہ کی تدابیر کتنی ہی ناکام کیوں نہ ہوں۔ بہرحال بیمار کی جان بچانے کی کوشش کو وہ آخری سانس تک کبھی روکنے پر تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ملت کی اصلاح اور اقامت دین کی جدوجہد ہی میں ان حضرات کے دل جلد ہارتے ہیں اور ہاتھ پاؤں جلد پھولتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو ملت سے دلسوزی کا اتنا گہرا تعلق ہے ہی نہیں کہ آخر دم تک تدابیر اصلاح کو اس پر آزماتے چلے جائیں اور کبھی نہ تھکیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کی دلسوزی کے بغیر کبھی کوئی اصلاح کی کوشش پنپ نہیں سکتی۔

ان حضرات سے ہم چند گذارشات کرنا چاہتے ہیں:۔

اولاً تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا مقام نبی کا نہیں، بلکہ نبوت سے ہزارہا درجے فروتر ہے، لہٰذا آپ کا منصب یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ایک نبی کی طرح کسی قوم و ملک کے مستقبل پر کوئی قطعی حکم لگائیں۔

نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فوق البشری "آیات" اور دلائل و شواہد کے ساتھ آتا ہے، جن کے ذریعے وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ حقیقتاً وہ اللہ کی طرف سے مبعوث و مامور ہے اور اس کی دعوت قطعی طور پر واجب القبول ہے جسے ٹھکرانا اپنی ہلاکت کا سامان کرنا ہے۔ دوسری طرف اس کا قول، اس کا فعل، اس کی سیرت، اس کا اخلاق، اس کی تحریک، اس کا طرز تعلیم، اس کا انداز تربیت، اس کی شانِ استدلال غرضیکہ اس کی سرگرمی، اصلاح

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

کا ہر پہلو ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی قابلِ گرفت کوتاہی نہیں ہوتی، اسکی تحریک میں کوئی جزئی سا تضاد اور کھوٹ بھی نہیں پایا جاتا، لہٰذا وہ اپنی زندگی میں لازماً "اتمامِ حجت" کا حق ادا کر کے جاتا ہے۔ نبی جس قوم سے براہِ راست خطاب کرتا ہے، اس کے پاس آخرت میں پیش کرنے کے لئے یہ عذر باقی نہیں رہتا کہ ہم تک دعوتِ حق نکھر کر نہ آئی تھی اور ہمیں اس کے پہچاننے میں کوئی دقت ہوئی تھی، بلکہ اس قوم کے لئے عذرات تراشی کے سارے راستے بند کر دیئے جاتے ہیں، وہ چاروں طرف سے دلائل سے گھیر دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اگر آخر دم تک سرکشی پر ڈٹی رہتی ہے تو وہ اپنے جرمِ بغاوت پر خود ہمہ تن شہادت بن جاتی ہے اور اس حال میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لئے عذاب مقدر ہو جاتا ہے!

لیکن نبی کا کوئی پیرو اتمامِ حجت کے وہ کامل وسائل نہیں رکھتا جو نبی کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام داعیِ حق دعوتِ حق تو دے رہا ہو لیکن اس کا اسلوب معیاری نہ ہو، اسکی بات تبیین نہ ہو، وہ وقت کے ذہنی فتنوں کی جڑیں تلاش کر کر کے ذہنوں سے اکھیڑ نہ سکے، اسکی شخصیت میں جاذبیت کم ہو، اس کے اخلاق میں کسی پہلو سے کچھ کمی رہ جائے، اسے تربیتِ عوام کا ڈھنگ پوری طرح نہ آتا ہو، وہ ایک مدت سے صبر سے کام کرتے چلے جانے کے بجائے جی ہار کر ٹھنڈا پڑ جائے، غرضیکہ بے شمار کمزوریاں اور کوتاہیاں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص دعوتِ حق دینے کا فریضہ تو انجام دیتا رہے لیکن اتمامِ حجت نہ کر سکے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اتمامِ حجت سے پہلے تباہ کن عذاب کے ورود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اللہ کے قانونِ عذاب کی حقیقت پر نگاہ ہو!

علاوہ بریں ایک عام داعیِ حق "آیاتِ بینات" اور معجزات اور سر کی آنکھوں سے نظر آنے والے دلائل و شواہد کہاں سے لائے گا۔ وہ تو نبی کے لئے خاص ہیں!

ان حالات میں کونسا داعیِ حق ایسا ہو سکتا ہے جو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ میں نے اتمامِ حجت کا حق ادا کر دیا ہے اور وہ حالت پیدا ہو چکی ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ:-

قد تبین الرشد من الغی — راست روی کجروی کے مقابل میں واضح ہو چکی!

فمن یکفر بالطاغوت و — اب جو کوئی "طاغوت" کا انکار کر کے

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

یومن باللہ فقد استمسک	اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط
بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ	رشتہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔

ہو سکتا ہے کہ ایک داعی اس حالت کے پیدا ہو جانے کے تصور میں ہو لیکن فی الواقع یہ پیدا نہ ہوئی ہو یا ابھی وہ اسے دور سمجھ رہا ہو اور یہ بالکل قریب آ چکی ہو۔ نبی کے علاوہ کوئی فرد یا گروہ قطعیت سے اتمام حجت کے واقع ہو جانے کا کبھی بھی اعلان نہیں کر سکتا؟

خود خدا کے انبیاء بھی از خود اتمام حجت کی آخری منزل کے آ جانے کا قطعیت سے کبھی فیصلہ نہیں کر سکے بجز اس کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں خاص اطلاع دی گئی ہو۔ بلا شبہ انبیاء کی فراست پیغمبرانہ بسا اوقات تحریکِ حق کے مستقبل کے مراحل کو بھانپ لیتی ہے لیکن یہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اس اندازے پر انبیاء حکم نہیں لگایا کرتے۔ چنانچہ سورۂ جن میں نبی صلعم کی زبان سے کہلوایا گیا:-

قل انی لا املک لکم ضرا	(اے نبی صلعم) کہہ دیجیے کہ نہ تمہارے لئے
ولا رشدا ۝ قل انی لن	برائی (عذاب) میرے بس میں ہے نہ تمہاری
یجیرنی من اللہ احد	ہدایت۔ کہہ دیجیے کہ اللہ سے مجھے بچانے والا کوئی
ولن اجد من دونہ	اور نہ اس کے سوا کہیں پناہ لینے کی کوئی جگہ ہے۔
ملتحدا ۝ الا بلغا	بجز اس کے کہ اللہ کی طرف سے (امانت) تم تک پہنچا دوں
من اللہ ورسلتہ	اور اس کے پیغامات سنا دوں۔ اور جو کوئی اللہ اور
ومن یعص اللہ ورسولہ	اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لئے جہنم کی
فان لہ نار جہنم خالدین	آگ (مقدر) ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔
فیہا ابدا ۝ حتی اذا	(یہ پیغام مجھے سناتے رہنا ہے) یہاں تک کہ جب
راوا ما یوعدون فسیعلمون	اس (انجام) کو دیکھ لیں جس کا انہیں وعدہ دیا گیا
من اضعف ناصرا واقل	اور پھر وہ جلد ہی جان لیں گے کہ ہم میں سے
عددا ۝ قل ان ادری	کون حمایتیوں کے لحاظ سے کمزور اور تعداد کے لحاظ سے بھی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

سے کم ہے۔

قریبٌ ما توعدون ام یجعل لہ
ربی امدا عالم الغیب
فلا یظھر علی غیبہٖ احدا
الا من ارتضی من رسول

(اے نبی صلعم) ان سے کہہ دیجئے کہ میں جانتا نہیں کہ جس (انجام) کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اسے کسی عرصے کے لئے ملتوی کر دیا ہے۔ وہی "غیب" کا جاننے والا ہے اور وہ کسی پر اپنے راز نہیں کھولتا ۔۔۔ مگر صرف اُس پر جسے وہ اپنے رسولوں میں سے پسند کرے!

یہاں دیکھئے، نبی تک یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اتمام حجت کی منزل قریب آ چکی ہے یا دور ہے اور میرے بس میں نہیں ہے کہ تمہارے لئے ہدایت کے دروازے بڑھ کے کھول دوں یا عذاب کے سیلاب کا بند توڑ دوں۔ یہ غیبی حقائق ایسے ہیں کہ ان کے اختیارات کی ساری کنجیاں خود اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں اور اسکو تحدی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ "من یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جھنم خالدین فیھا ابدا" ۔۔۔ یہ ایک اٹل قانون ہے خدا کا اور اس قانون کی صداقت کی گواہی پوری جرأت سے دی جا سکتی ہے۔ پھر یہاں نبی کو اس کے اصل فرض پر متوجہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا کام عذاب کے ورود کا انتظار کرنے کے لئے بیٹھ رہنا نہیں، اور تم آنے والے حالات کے لئے تماشائی بن کے نہیں رہ سکتے، تمہارا کام "بلٰغًا من اللہ ورسٰلتہ" ہے اور اس کام کا حق اگر ادا نہ کرو گے تو پھر تم کو خدا کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں اور تم کو اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہ ملے گی۔

نبی کو جب تک خدا کی طرف سے آنے والے فرشتگانِ عذاب براہِ راست آکر یہ اطلاع نہیں دے دیتے کہ اب اتمام حجت کا حق ادا ہو چکا اور آخری فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، اُس وقت تک نبی نہ اصلاح کی جدوجہد کو چھوڑتا ہے، نہ قوم سے کنارہ کشی کرتا ہے، نہ تمدن سے بھاگ کر غاروں میں پناہ لینے کی تدابیر اختیار کرتا ہے بلکہ حالات جتنے جتنے تاریک ہوتے جاتے ہیں، وہ اتنا ہی اتنا زیادہ سرگرم ہوتا جاتا ہے ۔۔۔ بالکل اس جذبے کے ساتھ جیسے کسی شخص کا بچہ جتنا زیادہ کرب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کے دوا اور معالجے کے

© rasailojaraid.com

سے اتنے ہی زیادہ اضطراب سے دوڑ دھوپ کرتا ہے، نہ الٹا یہ کہ وہ بیماری کے بڑھ جانے پر الگ جا کے بیٹھ رہے اور بچے کی موت کے وقوع کا انتظار کرنے لگے۔

صرف ایک نبی نے اپنی قوم کو وقت سے ذرا ہی قبل چھوڑ دیا تھا اور عذاب کے آنے میں جو تین دن کی مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی اس کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ یہ یونس علیہ السلام تھے جن پر سخت عتاب ہوا کہ تم نے دعوتِ اصلاح کو ترک کیوں کیا اور وقت سے قبل قوم کو عذاب کا شکار ہونے کے لئے کیوں چھوڑ دیا۔

عذاب کی گھڑی کے سروں پر ٹک آنے پر بھی اصلاح کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور یہ نازک موقع مصلحین کے لئے انتہائی سرگرمی کا ہوتا ہے کہ وہ آخری مرتبہ اپنی سی کر دیکھتے ہیں۔ لیکن عذاب کے وقوع سے قبل اصلاح کی جدوجہد کا ترک کر دینا بہت ہی غلط طریق کار ہے۔ یہ کام تو عین آخری منٹ تک جاری رہنا چاہیئے۔ سورۂ یونس میں ہے کہ:-

فلولا کانت قریۃ اٰمنت فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس لما اٰمنوا کشفنا عنھم عذاب الخزی فی الحیٰوۃ الدنیا ومتعنٰھم الیٰ حین ○ (۹۸)

کیوں نہ ایسا ہوا کہ کوئی بستی (قوم) — (عذاب کے ٹک آنے پر) — ایمان لے آتی، سو اس کو اس کا ایمان لانا نفع دیتا مگر صرف ایک قوم یونس نے ایسا کیا ہے جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو ان سے ٹال دیا اور ایک مدت کیلئے انکو کام کرنے کی مہلت دیدی

مراد یہ کہ عذاب کے سر پہ ٹک آنے کے بعد بھی مہلت کی آخری گھڑیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی گروہ انسانی رجوع الی اللہ پر آمادہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کرلے، اور ان گھڑیوں میں مصلحین کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری موقع سے فائدہ اٹھانے پر قوم کو زیادہ سرگرمی سے آمادہ کرنے میں لگ جائیں۔ قوم یونس نے یہی کیا کہ جب ان پر عذاب ٹک آیا اور صرف تین دن کی مہلتِ اصلاح باقی رہ گئی تو یونس علیہ السلام حمیّت حق کے جذبے کے تحت قوم کے سرکش نہ رہتے کو دیکھ کر اس سے الگ ہو گئے، لیکن

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

قوم کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے آخری گھڑیوں میں اپنا سر اللہ کے سامنے خم کر دیا اور عذاب ٹل گیا۔

پس عذاب کے در در سے پہلے عذاب کے لازمی مقدر ہو جانے کا فتویٰ دے دینا اور کسی قوم کی اصلاح سے قطعی طور پر مایوس ہو کر الگ ہونا دعوتِ حق کے کارکنوں کے لئے کبھی بھی جائز نہیں ہے۔

قانونِ عذاب کی ایک مستقل دفعہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ:-

فلولا کان من القرون من قبلکم اولوا بقیۃ ینھون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منھم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین ۝ وما کان ربک لیھلک القری بظلم واھلھا مصلحون ۝

پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی اقوام میں سے وہ لوگ جن میں رُخِ حق کا کچھ اثر باقی تھا، لوگوں کو زمین میں رقّ نوں اپنی سے آزاد ہو کر فساد بپا کرنے سے باز رکھتے۔ مگر ایسے لوگ کم تھے کہ جنہیں ہم نے عذاب کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ اور اہلِ ظلم نے وہ روش اختیار کی جس میں عیش دیکھا اور وہی مجرم تھے!

اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں (قوموں) کو بے انصافی سے ہلاک کر دے۔ جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح کی جدوجہد میں لگے ہوں:

یہ آیت صاف صاف بیان کر رہی ہے کہ جب تک کسی قوم میں اصلاح کی جد و جہد جاری رہتی ہے۔ کچھ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی دعوت پر کچھ نہ کچھ لوگ لبیک کہتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک اسے گوارا کیا جاتا رہتا ہے، اور اسے کالعدم کر کے ایک قطعی موذی قوم نہیں مر جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب وارد نہیں کیا جاتا۔ اسی قانون کے پیشِ نظر مطالبہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں میں خدا پرستی کا کوئی اثر موجود ہو، ان کا کام یہ ہے کہ وہ برابر حق سے سرکشی کرنے کی روش سے خواص و عوام کو باز رکھنے میں لگے رہیں۔

یہی بات بنی اسرائیل پر گفتگو کرتے ہوئے دوسری جگہ یوں کہی گئی :-

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

ولا ینھٰھم الربّٰنیّون والاحبار عن قولھم الاثم واکلھم السحت لبئس ما کانوا یصنعون ۔

کیوں نہ ان کے علماء و صوفیاء نے ان کو ان کے مجرمانہ اقوال سے اور ان کی حرام خوریوں سے ان کو روکا۔ یقیناً بہت بری حرکات تھیں جن کو یہ انجام دے رہے تھے۔

یہ سوال جو آخرت میں ہر خدا پرست اور ہر خادمِ دین سے اپنی قوم اور ماحول کے بارے میں ہونے والا ہے، اگر اسکو ذہن میں رکھ کر ہمارے قنوطی حضرات غور کریں کہ کیا اس کا جواب دینے کے لئے وہ پوری تیاری کر چکے ہیں اور شہادت و دعوت کا فرض ادا کر کے فارغ ہو چکے ہیں تو شاید ان کو محسوس ہو سکے کہ ابھی کام بہت زیادہ باقی ہے اور انہوں نے اس کا سواں حصہ بھی سرانجام نہیں دیا۔

یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لئے اگر ان لوگوں سے گھل مل کے رہے تو خود ہمیں خطرہ ہے کہ ہم بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آجائیں، اس وجہ سے ہمیں تمدن سے الگ ہو کے کہیں جنگلوں میں اپنی جانیں بچانے کی فکر کرنی چاہیئے۔ حالانکہ ان کو قانونِ عذاب کی اس دفعہ کا علم نہیں جس کی رُو سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ مصلحین اگر حقِ اصلاح ادا کر رہے ہوں اور اس حال میں عذاب آجائے تو ان کو بچا لیا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

حقاً علینا ننجی المؤمنین

ہم پر حق ہے کہ ہم اہلِ ایمان کو عذاب سے بچالیں۔

پوری تاریخ تا قیامتِ دین کو دیکھئے، ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ مصلحینؔ کو مجرمینؔ کے انجام سے بچا لیا گیا ہے۔ اللہ مصلحین اور فاسقین میں فرق کرتا ہے اور دونوں سے اس کا سلوک مختلف ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً ؟

کیا وہ جو مومن ہو اس کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ — (دونوں برابر نہیں)

ہمارے ان قنوطی مصلحین کو یہ بات تو بہرحال معلوم ہونا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو عین اس وقت پلٹ دیتا ہے جب کہ وہ بظاہر انتہائی بگاڑ کو پہنچ جاتے ہیں۔ رات کی تیرگی جب گہری ہو چکتی ہے تو اس

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

کا سینہ پھاڑ کر اُس سے صبح برآمد ہو جاتی ہے خشک سالی جب اپنی انتہا کو پہنچ چکتی ہے تو بارانِ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کا بگاڑ بڑھتے بڑھتے جب ایک خاص حد کو پہنچتا ہے تو اصلاح اس میں سے اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ یہی حقیقت ہے جسے یوں بیان کیا گیا:۔

هو الذی ینزل الغیث من بعد
ما قنطوا وینشر رحمته

وہ (اللہ) وہ ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے
پر بادل بھیج دیتا ہے اور پھر اپنی رحمت (کی بارش)
کو (ہر طرف) بکھیرتا ہے۔

دوسرے مقام پر وحی و نبوت کی بارانِ رحمت کے نزول اور بگاڑ کے بعد ایک قوم کی اصلاح کے سامان کے اچانک ظہور کا منظر یوں بیان کیا گیا ہے:۔

وهو الذی یرسل الریح بشرا
بین یدی رحمته حتی اذا
اقلت سحابا ثقالا سقنه لبلد
میت فانزلنا به الماء فاخرجنا
به من کل الثمرات کذلک
نخرج الموتی لعلکم تذکرون ○
— والبلد الطیب یخرج
نباته باذن ربه والذی
خبث لا یخرج الا نکدا

اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے (پیش آہنگ بنا کر)
بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے — یہاں
تک کہ وہ ابرِ کثیف کو لاد کے لے چلتی ہیں، پھر ہم
ہانک کے لے گئے ان کو کسی زندگی باختہ شہر تک،
پھر ان میں سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے ہر
قسم کے پھل اگائے۔ یوں ہم مردوں کو زندہ کرکے
نکال کھڑا کرتے ہیں، شاید کہ تم (اس تعارف سے)
بات پا جاؤ!
اور (ہماری بارانِ رحمت کے نزول پر) پاکیزہ بستی
(پاکیزہ) برگ و بار لاتی ہے اپنے رب کے اشارے
سے، اور (دوسری طرف) جو بستی خبیث ہوتی ہے
اس میں پیداوار ناقص ہی ہوتی ہے!

یہ پورا ٹکڑا معنی خیز استعارے پر مشتمل ہے اور جا بجا اس میں وہ اشارے موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ بات عام

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بارش کی نہیں، بلکہ انسانی زندگی پر بارانِ وحی وہدایت کے واقع ہونے پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ بستی یا قوم جس کے افراد ذہنی و اخلاقی موت کا شکار ہو چکے ہوں اور جن میں بظاہر زندگی کے کوئی آثار باقی نہ رہے ہوں، ان کو بھی ہم ازسرِ نو زندگی عطا کر دکھاتے ہیں۔ یہاں بلاشبہ ایک اشارہ معادؔ کے بعثِ موتیٰ کی طرف بھی ہے لیکن اس سے زیادہ استدلال دنیا میں مشکل ترین حالات میں احیائے دین کی کوششوں کو بار آور کر دکھانے پر کیا گیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کس وقت کس بستی اور کسی قوم کے لئے بشارت کی ہوائیں چلنے لگیں اور کب بارانِ رحمت کا نزول ہو جائے! بشارت کی ہواؤں کے چلنے اور بارانِ رحمت کے نزول میں کسی بستی اور قوم کی کھیتی کا ویران ہونا حائل نہیں، بلکہ الٹا یہ رحمت الٰہی کے لئے بلاوا ہوتا ہے۔

علاوہ بریں قرآنِ کریم نے انتہائے معصیت وبغاوت کو پہنچے ہوئے افراد اور جماعتوں تک کو اطمینان دلایا ہے کہ جب بھی تم اصلاح پر آمادہ ہو گئے، توبہ کے دروازوں کو کھلا پاؤ گے:-

قل یٰعبادی الذین اسرفوا علٰی انفسھم لا تقنطوا من رحمۃ اللّٰہ ان اللّٰہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ ھو الغفور الرحیم!

(اے نبی صلعم!) کہ دیجئے کہ اے میرے بندو! ــــ وہ کہ جنھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں ـــ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ! اگر تم آمادۂ اصلاح ہو جاؤ تو بلاشبہ اللہ تمہارے (ماضی کے) سارے گناہ بخش دیگا۔ یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اب اللہ تو اپنے بندوں کے لئے مغفرت واصلاح کے دروازے چوپٹ کھولے ہوئے ہے، چاہے بظاہر ان کے حالات کیسے ہی مایوس کن ہوں، لیکن ہمارے قنوطی حضرات کو نہ معلوم کیسے یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ ان دروازوں کو بند سمجھیں یا یہ یقین کر لیں کہ ان دروازوں سے اب کوئی داخل ہونے والا نہیں رہا۔ آخر اس بات کے لئے ذریعۂ معلومات کیا ہے کہ کب کس کے دل میں انابت الی اللہ کی لہر اُٹھے اور کب کون اپنے سابق گناہوں پر نادم ہو کر اطاعتِ الٰہی کے لئے کمربستہ ہو جائے؟ ـــــ محض ایک سرسری اندازے پر تو کسی قوم کے قطعی طور پر مستحقِ عذاب ہو جانے کا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک افسوسناک زیادتی ہے!

آپ کا مایوس ہو کر غاروں میں بیٹھ رہنا، شخصی زندگی کی سرگرمیوں میں کھو جانا اور اصلاحِ ملت سے ہاتھ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اٹھا لینا اللہ کو اس سے روک نہیں سکتا کہ وہ ہدایت کے دروازے چوپٹ کھول دے۔ وہ "خالق الاصباح" اگر رات کا سینہ چیر کر اس میں سے نیا دن ابھار کے لا دکھائے تو کسی کی قنوطیت مانع نہیں ہو سکتی، پس کرنے کا کام قنوطیت کا اظہار نہیں، بلکہ امید کے اسباب کا ابھارنا ہے۔ لے سے کیجئے اور بد دلی پھیلا کر ان لوگوں کے کام میں روڑے نہ اٹکائیے جو بساط بھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔

آپ نے عوام کی اصلاح سے مایوسی کا فتویٰ دینے سے پہلے کاش کہ اتنا غور کیا ہوتا کہ اب تک آخر اصلاح کا کام ہوا کیا ہے؟ ۔۔۔ کیا یہ چند وعظ، چند تقریریں، چند درس اس بات کے لئے کافی ہیں شہادتِ حق اتمام حجت کی منزل کو پہنچ جائے! یہ وعظ اور درس اتنی بڑی قوم کی اصلاح کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ قوم جس کو چاروں طرف سے شیاطین نے گھیر رکھا ہے۔ یہ جس کو "ائمہ ضلالت" یوں طرح گھیرے ہوئے ہیں جن کی صحافت الحاد و لادینی کا طوفان اٹھا رہی ہے۔ جس کے علماء نے تو دین کی حقیقت کو ان پر مشتبہ بنا رکھا ہے، جس کے لیڈروں نے مختلف بولیاں بول بول کر اسے ایک انتشار میں مبتلا کر رکھا ہے، جس پر سرمایہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے، جس پر جدید فلسفے کا طوفان لٹریچر کی صورت میں ٹوٹا پڑتا ہے، اس میں آپ کے چند وعظ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں تو ساری اصلاح میں اگر عمریں کھپ جائیں تو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شہادتِ حق کا حق ادا ہو گیا!

کسی داعیٔ حق کو اس وقت تک مایوسی کا اظہار کرنے کا حق نہیں جب تک ایک ماحول میں اس کا وجود کسی درجے میں بھی گوارا کیا جاتا ہے، اور جب تک بچہ بچہ اس کی دعوت کو علانیہ رو در رو ہو کر ٹھکرا نہیں دیتا۔ بخلاف اس کے یہاں تو حالات انتہائی امید افزا ہیں۔ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، بعض اثر لیتے ہیں، بعض قبول کرتے ہیں، بعض عملی تعاون پر تیار ہو جاتے ہیں، بعض دینِ حق کے لئے ہمہ تن ایثار ہو جاتے ہیں ۔۔۔ آہستہ آہستہ کوشش کرنے والوں کی کوششوں کے نتائج برابر نکل رہے ہیں! بحالیکہ حال کہ لوگ مکہ میں خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے، پٹتے تھے، لہولہان کر دیئے جاتے تھے، دو سال تک شعب ابی طالب میں نظر بند رکھے گئے، جب بھی انہوں نے اس وقت سے پہلے قنوطیت کے جذبوں کو دلوں میں جگہ نہ دی، جب تک کہ ان کے قتل اور اخراج کے منصوبے نہ بن گئے اور جب تک کہ ان کو یہ یقین نہ ہو گیا

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

کہ اب مکہ کی سرزمین ان کا وجود ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتی! لیکن ہزار طرح کی سہولتوں اور آسانیوں میں ہوتے ہوئے آپ کون ہوتے ہیں کہ قوم کی اصلاح کے ناممکن ہونے کا فتوے دیں؟ آپ کی قنوطیت ایک خطرناک بزدلی اور فرض ناشناسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، براہِ کرم اس کے علاج کی طرف توجہ فرمایئے، ورنہ بحالاتِ موجودہ دوسروں کی طرف سے جو تھوڑی بہت سعیِ اصلاح ہو رہی ہے، آپ اسکی راہ میں بھی رکاٹیں ڈالتے رہیں گے۔

یہ ساری قنوطیت خدا تعالٰے کے سنن و قوانین کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ان سنن و قوانین کو آپ سمجھیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کو ملحوظ رکھیں۔

یہ تمام قنوطیت زدہ عناصر جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے مرض کے اسباب چاہے کتنے ہی مختلف ہوں، نتیجہ بہر حال ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قنوطیت سے متاثر ہونے والے ہزاروں افراد عضوِ معطل بن کے رہ گئے ہیں اور عین اس حال میں کہ خیر و شر کی فیصلہ کن کشمکش ہو رہی ہے، یہ اپنی قوتیں اس کشمکش میں لگانے سے رکے بیٹھے ہیں۔ پھر اگر خود یہ حضرات ہی ناکارہ بن کے بیٹھ رہتے تو غنیمت ہوتا، مشکل یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے حلقہ ہائے اثر میں اپنے اقوال سے بھی اور طرزِ عمل سے برابر دوسروں کو بھی اپنے ہی مرض میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حق کو حق ماننے کے باوجود اس کے غلبے کے حریص ہونے کے باوجود اس کی ترقی میں حائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی اصلاح کے لیے بے چین ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے بجھے ہوئے دیئے پھر سے روشن کیے جا سکیں۔ (باقی آئندہ)

© rasailojaraid.com